



## سوال

(425) لڑکی کب روزہ رکھنا شروع کرے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک لڑکی پر روزے رکھنے کب فرض ہوتے ہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

لڑکی جب شرعی ذمہ داروں کی عمر کو پہنچ جائے (یعنی بالغ ہو جائے) تو اس پر روزے رکھنے فرض ہو جاتے ہیں۔ اور لڑکی کا بالغ ہونا، ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔

1- عمر پندرہ سال ہو جائے۔ 2- زیر ناف سخت بال اگ آئیں۔

3- اسے انزال (منی) ہو۔ 4- یا ماہانہ ایام (حیض) شروع ہو جائیں۔

5- یا حمل ہو جائے۔

جب ان علامات میں سے کوئی ایک بھی ثابت ہو جاتے تو اسے روزے رکھنے لازم ہوں گے، خواہ اس کی عمر دس سال ہی ہو۔ کیونکہ بہت سی لڑکیوں کو دسویں یا گیارہویں سال میں ماہانہ ایام شروع ہو جاتے ہیں، مگر اس کے گھر والے اسے چھوٹی عمر کی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اسے روزوں کا پابند نہیں کرتے، اور یہ ایک بڑی غلطی ہے۔

الغرض لڑکی کو جب ایام آنے شروع ہو جائیں تو وہ بالغ ہوتی ہے اور شرعی ذمہ داروں کی پابند ہو جاتی ہے۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

## احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا



## محدث فتویٰ